



SWIS-H
STATEWIDE INFANT
SCREENING - HEARING



میرے بچے کو تشخیصی جائزے کی ضرورت کیوں ہے؟

تشخیصی جائزہ کس طرح کیا جاتا ہے؟

اس تشخیصی جائزے کو Auditory Brainstem Response (ABR) ٹیسٹ کہتے ہیں۔ جیسے سینسرز سکرین میں استعمال کیے گئے تھے، ویسے ہی سینسرز آپ کے بچے کے سر پر لگائے جائیں گے۔ بیڈفونز کے ذریعے آپ کے بچے کیلئے آوازیں بجائی جائیں گی۔ آوازوں پر آپ کے بچے کا ردعمل ریکارڈ کیا جائے گا۔ یہ ردعمل وہ ہلکی ترین آوازیں ظاہر کرتا ہے جو آپ کا بچہ سن سکتا ہے۔

تشخیصی جائزے کے بعد کیا ہو گا؟

بالعموم اسی روز آڈیولوجسٹ آپ کو نتائج کے بارے میں بتا سکے گا اور واضح کر سکے گا کہ ان نتائج کا کیا مطلب ہے۔

اگر یہ معلوم ہوا کہ آپ کا بچہ سماعت سے محروم ہے تو آپ کو نیو ساؤتھ ویلز میں بچوں کے تین ہسپتالوں میں سے ایک میں سپیشلسٹ خدمات کے پاس ریفر کیا جائے گا۔ ان خدمات کو ایک رپورٹ بھیجی جائے گی۔ ایک کاپی آپ کو، اور آپ کی اجازت کے ساتھ ایک کاپی آپ کے مقامی ڈاکٹر اور آپ کے بچے کے پیڈیاٹریشن کو بھی بھیجی جائے گی۔ آڈیولوجسٹ اور سوشل ورکر آپ کو وہ خدمات اور مدد حاصل کرنے میں مدد دیں گے جن کی آپ کو اور آپ کے بچے کو ضرورت ہو۔ اگر آپ کے بچے کی سماعت نارمل پائی گئی لیکن بعد میں کسی مرحلے پر آپ کو اپنے بچے کی سماعت، بولنے یا زبان کی نشوونما کے حوالے سے فکر پیدا ہو تو براہ مہربانی اپنے بچے کی سماعت دوبارہ ٹیسٹ کروانے کا بندوبست کریں۔ اس سلسلے میں آغاز کیلئے اپنے فیملی ڈاکٹر سے بات کرنا اچھا ہے۔ سماعت کسی بھی عمر میں ٹیسٹ کی جا سکتی ہے۔

براہ مہربانی مزید معلومات کیلئے
مندرجہ ذیل ویب سائٹ دیکھیں:

<http://www.health.nsw.gov.au/kids-families>

مقامی رابطہ / ملاقات کے وقت کی تفصیلات

صحت کے بارے میں مشورے کیلئے *healthdirect Australia*
(ہیلتھ ڈائریکٹ آسٹریلیا) سے رابطہ کریں
<http://www.healthdirect.gov.au/>
1800 022 222

اگر آپ کے بچے کی پہلی دو مرتبہ سماعت کی سکرین سے واضح نتیجہ حاصل نہ ہو تو بچے کو تشخیصی جائزے کی ضرورت ہو گی۔

اس کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ:

- آپ کے بچے کے کان میں پیدائش کے بعد پانی یا رکاوٹ تھی
 - آپ کا بچہ کسی حد تک سماعت سے محروم ہو
- یہ جلد از جلد پتہ چلانا اہم ہے کہ آپ کے بچے کو کتنی اچھی طرح سنائی دیتا ہے تاکہ آپ کو اور آپ کے بچے کو درست مشورہ اور مدد مل سکے۔
- اگر آپ اس ہسپتال سے ۱۰۰ کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر رہتے ہیں جہاں آپ کو ریفر کیا گیا ہے تو یہ بروشر دینے والے شخص سے SWIS-H کی سفری مدد کی سکیم کے بارے میں پوچھیں۔

تشخیصی جائزے کے دوران کیا ہو گا؟

اس بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کیلئے کئی ٹیسٹ کیے جائیں گے کہ آپ کے بچے کو کیسا سنائی دیتا ہے۔ ایک آڈیولوجسٹ، جو کہ سماعت کی ٹیسٹنگ کا ماہر ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ انجام دے گا۔ یہ جائزہ بلا معاوضہ کیا جاتا ہے۔ کسی ٹیسٹ سے آپ کے بچے کو تکلیف نہیں ہو گی۔

میں اپنے بچے کو جائزے کیلئے کس طرح تیار کروں؟

اگر آپ کا بچہ ٹیسٹوں کے دوران سویا رہے تو یہ بہترین ہے۔ اس وجہ سے، یہ فائدہ مند ہو گا کہ آپ وقت سے تھوڑا پہلے پہنچ جائیں تاکہ آپ کے پاس بچے کو دودھ پلانے اور پر سکون کر کے سلانے کیلئے وقت ہو۔

اگر آپ کے دوسرے بچے بھی ہیں تو براہ مہربانی انہیں گھر پر کسی اور کی نگرانی میں چھوڑ کر آنے کا بندوبست کریں تاکہ آپ جائزے کے دوران تمام وقت اپنے بچے کے ساتھ موجود رہ سکیں۔ ماحول میں خاموشی ضروری ہے۔ چونکہ تشخیصی جائزے میں کئی ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں، اپنی ملاقات کے وقت کے لحاظ سے اس دن ساری صبح یا دوپہر جائزے کیلئے مخصوص رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی مدد کیلئے کسی اور شخص کو ساتھ لانا پسند کریں۔



NSW
GOVERNMENT | Health

